



اللہ! میں تیری پناہ مانگتا ہوں قبر کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے، زندگی اور موت کے فتنے سے اور مسیح دجال کے فتنے سے

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں: اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے اور کہتے تھے: "اللہ! میں تیری پناہ مانگتا ہوں قبر کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے، زندگی اور موت کے فتنے سے اور مسیح دجال کے فتنے سے" جب کہ صحیح مسلم میں ایک روایت ہے: "جب تم میں سے کوئی آخری تشدد سے فارغ ہو، تو چار چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگے: جہنم کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے، زندگی اور موت کے فتنے سے اور مسیح دجال کی برائی سے"

[صحیح] [متفق علیہ]

اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں آخری تشدد کے بعد اور سلام سے پہلے چار چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگتے تھے اور ہمیں بھی ان سے اللہ کی پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے 1- قبر کے عذاب سے 2- جہنم کے عذاب سے 3- زندگی کے فتنے سے، جیسے اس کی حرام خواہشات اور گمراہ کن شبہات سے۔ اور موت کے فتنے سے، یعنی حالت نزع میں اسلام یا سنت سے بھٹک جانے سے یا پھر قبر کے فتنے سے، جیسے دونوں فرشتوں کے سوال سے 4- مسیح دجال کے فتنے سے، جو آخری زمانہ میں نکلا گا اور جس کے ذریعے اللہ اپنے بندوں کو آزمائے گا یہاں بطور خاص دجال کا ذکر اس لیے کیا گیا ہے کہ اس کا فتنہ بڑا بھیانک فتنہ ہوگا اور وہ لوگوں کو بہت بڑے پیمانے پر گمراہ کرے گا

<https://www.sunnah.global/hadeeth/ur/show/3103>



النجاة الخيرية
ALNAJAT CHARITY

